



سوال

(89) بیوی کی بھانجی سے نکاح کروانا

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور دخول بھی کرچکا ہے اسی عورت کی حقیقی بہن کی ایک لڑکی ہے جو دوسرے شوہر سے ہے اگر شخص مذکورہ اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہے تو اس کے لئے حلال ہے یا حرام؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

عورت اور اس کی بھانجی دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتا آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں: **لا تجمع بین المرأة وخالها** ہاں خالہ کے مرجانے یا سا کو طلاق دینے کے بعد اس کی بھانجی سے نکاح کر سکتا ہے یا پہلے بھانجی سے نکاح کیا ہو تو اس کے مرجانے یا اس کو طلاق دینے کے بعد خالہ اس کی بھانجی سے نکاح کر سکتا ہے یا پہلے بھانجی سے نکاح کیا ہو تو اس کے مرجانے یا اس کو طلاق دینے کے بعد اس کی خالہ سے نکاح کر سکتا ہے۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ شیخ الحدیث مبارکپوری

جلد نمبر 2 - کتاب النکاح

صفحہ نمبر 210

محدث فتویٰ